



سوال

(350) کیا مسلمان کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی یہودی یا عیسائی کو کافر کہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا مسلمان کیلئے جائز ہے کہ وہ کسی یہودی یا عیسائی کو کافر کہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسلمان کے لئے جائز ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی کے بارے میں کہہ کہ وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لئے اس قسم کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جو کوئی بھی قرآن کریم غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے اسے یہ بات معلوم ہے۔ مثلاً ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ ۱ ... السینۃ

”اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔“ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دار السلام

ج 1

محدث فتویٰ